

استفتاء

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام ان مسائل کے بارے میں:
ایک شخص نے دو عورتوں سے نکاح کیا ہے، وہ دونوں عورتیں آپس میں باپ شریک بہنیں ہیں یعنی دونوں کا باپ ایک ہے اور
مائیں الگ الگ ہیں، فی الحال بھی مذکورہ دونوں عورتیں اس آدمی کے پاس ہیں، کیا اس طرح سے دو بہنوں کو جمع کرنا جائز ہے؟
مستفتی: محمد نواز

03087788601

الجواب باسم ملهم الصواب

ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

حرمت علیکم... وان تجمعوا بین الاختین.. الاية

ترجمہ: حرام کیا گیا ہے تم پر کہ تم دو بہنوں کو (ایک ساتھ نکاح میں) جمع کرو۔

اس آیت کریمہ میں اخت عینیہ (جو بہن ماں باپ شریک ہو)، اخت علاقیت (جو بہن باپ شریک) اور اخت اخیانیہ (جو بہن ماں
شریک ہو) سب داخل ہیں ہر دو کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام و ناجائز ہے۔ صورتِ مسئلہ میں جب اس آدمی نے اپنی
سالی سے نکاح کیا تو اس کا سالی سے نکاح ناجائز و حرام ہے، البتہ جس عورت سے اس آدمی کا پہلے نکاح ہوا ہے اس کا نکاح باقی
ہے۔ لیکن اگر سالی سے ہبستری کر چکا ہے تو پہلی بیوی سے بھی ہبستری کرنا حرام ہے۔ اس لیے اس آدمی پر لازم ہے کہ سالی
کو طلاق دے یا زبان سے کدے کہ میں نے تجھے الگ کر دیا، اس کے بعد جب اس عورت کی عدت گزر جائے تو پہلی بیوی سے


ہبستری کرنا حلال ہو گا۔ (امداد الکاہن: 245/2) - (معارف القرآن ج ۲ ص ۲۵۸)

کذا فی احسن الفتاوی: (62/5)

وفی القرآن الکریم: [النساء: 23]

حرمت علیکم... وان تجمعوا بین الاختین إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً

بہاری



وفي البحر للديد في تفسير القرآن المجيد: (42/3)

(وأن تجمعوا بين الأختين) شقيقتين أو لأب أو لأم.

وفي أحكام القرآن لابن العربي: (259/2)

والأخت: عبارة عن كل امرأ أشارت لك في أصلك؛ أيك وأختك...

وفي البناية شرح الهداية: (26/5)

(لقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] من: (النساء الآية 23) وهو في

موضع الرفع، لأنه معطوف على الحرمات، أي ويجرم عليكم الجمع بين الأختين، والمراد

حرمة النكاح، لأن التحريم في الآية تحريم النكاح لقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين}

23 | عطف على أمهاتكم. (ولقوله - صلى الله عليه وسلم -) أي لقول النبي - صلى الله عليه

وسلم - : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين»..

دستخط: حضرت مفتي محمد ابراهيم صاحب دامت برکات

والله اعلم بالصواب

کتبہ فقہیہ حسن علی حد

دار الافتاء

16 نومبر 1440ھ مطابق 27 نومبر 2018ء

الجواب صحیح
17-18

دستخط: مفتي احسن عزيز صاحب دامت برکات

دستخط: شیخ طارق شمیم صاحب دامت برکات

الجواب صحیح
دار الافتاء
14 نومبر 1440ھ

دار الافتاء
93/9
14/11/18

الجواب صحیح
علیم بن عمر
14/11/18

اے دارالافتاء کے سربراہان! میں نے اس مسئلہ پر ایک فتویٰ لکھا ہے جسے آپ کو بھیج رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے خلاصہ بھی لکھا ہے۔

• Call No: 0200-7982010
• Email: islamcenter@ymail.com



• Darul Uloom Haqqania, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000